



En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso

(Traducción No Oficial)

Su Excelencia Daniel Ortega

Copresidente de la República de Nicaragua

Su Excelencia Rosario Murillo

Copresidenta de la República de Nicaragua

Con satisfacción, felicitamos sinceramente a Sus Excelencias y al noble y heroico pueblo de su país por el cuadragésimo sexto aniversario de la victoria de la Revolución Sandinista de Nicaragua.

Estoy seguro de que la gloriosa revolución de Nicaragua, bajo la sabiduría y liderazgo de Su Excelencia y de la Señora Rosario Murillo, superando los problemas y conspiraciones de los enemigos, alcanzará sus elevados objetivos en pro del establecimiento de la paz y la justicia, así como de la felicidad y el bienestar del pueblo de Nicaragua.

Una vez más, reafirmo la voluntad y el interés de la República Islámica de Irán para desarrollar la cooperación con el país hermano Nicaragua.

Pido a Dios Todopoderoso salud y éxito creciente para Sus Excelencias, y felicidad y prosperidad para el pueblo del país amigo y hermano Nicaragua.

(FIRMA)

Masoud Pezeshkian

Presidente de la República Islámica de Irán



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جناب آقای دانیل اورتگا ساآودرا

سرکار خانم روساریو موریو

روسای جمهوری مشترک محترم نیکاراگوا

با خرسندی، چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب ساندینیستی نیکاراگوا را به عالی جنابان و مردم شریف و قهرمان کشورتان صمیمانه تبریک می گویم. اطمینان دارم انقلاب شکوهمند نیکاراگوا در پرتو درایت و رهبری جناب عالی و سرکار خانم روساریو موریو با غلبه بز مشکلات و توطئه های دشمنان به اهداف عالی خود در جهت برقراری صلح و عدالت و نیز سعادت و رفاه مردم نیکاراگوا، نائل خواهد آمد.

یک بار دیگر بر اراده و علاقه جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری ها با کشور برادر نیکاراگوا تاکید می نمایم. از خداوند متعال؛ برای عالی جنابان سلامتی و موفقیت روز افزون و برای مردم کشور دوست و برادر نیکاراگوا، سعادت و سربلندی مسالت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران